

اقرار نامہ

میں چاہتا/چاہتی ہوں کہ Asylum Support Appeals Project (اسائلم اسپورٹ اپیلز پروجیکٹ) جس کا مخفف ASAP (اے ایس اے پی) ہے، میری/میری اور میری فیملی کی اسائلم اسپورٹ اپیل کی سماعت میں نمائندگی کرے۔ میں اے ایس اے پی کو اجازت دیتا / دیتی ہوں کہ وہ میری/میری فیملی کی جانب سے اسائلم اسپورٹ اپیل کے متعلق (Asylum Support Tribunal) اسائلم اسپورٹ ٹرائبونل میں مطلوبہ کاروائی کرے۔

میں اے ایس اے پی کو اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ وہ میری سماعت سے پہلے، میری/میری فیملی کی اپیل کی نقل ٹرائبونل سے حاصل کرے۔

مجھے سمجھ بوجھ ہے کہ اے ایس اے پی کو میری مدد کرنے کے لیے میرے/میرے فیملی کے مقدمے کے بارے میں دوسرے اداروں سے بھی بات کرنی پڑ سکتی ہے اور اس فارم پر دستخط کر کے میں اسائلم اسپورٹ اپیلز پروجیکٹ کو اس کی اجازت دیتا/دیتی ہوں۔

میں کسی بھی دوسرے شخص یا ادارے کو اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ وہ اے ایس اے پی کو میری ایسی دستاویزات یا معلومات (بشمول طبی معلومات) فراہم کر دیں جس کی اے ایس اے پی کو میری Asylum Support (اسائلم اسپورٹ) / رہائش یا مالی امداد کے لیے مجھے/میری فیملی کو مدد دینے میں درکار ہو۔

مجھے سمجھ بوجھ ہے کہ اے ایس اے پی کو میرا/میری فیملی کا ڈیٹا (ذاتی معلومات) ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے اور میری گمنام کردہ کیس فائل کوئی بھی بیرونی آڈیٹر معیار کی جانچ کے لیے اس سے مانگ سکتا ہے یا میرے گمنام کردہ ڈیٹا کو اسائلم اسپورٹ کے متعلق پالیسیوں کو بہتر بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، میں اس کام کی بھی اجازت دیتا/دیتی ہوں۔

دستخط شدہ:

نام، جلی حروف میں:

تاریخ:

براہ کرم اگر آپ متفق ہوں، تو درج ذیل پر بھی ٹیک کا نشان لگائیں۔ ٹرائبونل میں آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے مگر اسائلم اسپورٹ کی پالیسیوں میں بہتری لانے میں مددگار ہو گا:

میں رضامند ہوں کہ اے ایس اے پی مجھ سے مستقبل میں رابطہ کرے۔

میں اے ایس اے پی کو اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ اسائلم اسپورٹ کی پالیسیوں اور فیصلہ سازی میں مدد کے لیے، وہ ہوم آفس کے ساتھ میرے/میری فیملی کے مقدمے کی تفصیلات کو شیئر کرے۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ آپ اپنی رضامندی کسی وقت بھی واپس لے سکتے/سکتی ہیں - اگر آپ ایسا کرنا چاہیں، تو ہمارے ساتھ درج ذیل پتہ پر رابطہ کریں۔

Asylum Support Appeals Project, Studio 11/12, Container City Building

Trinity Buoy Wharf, London, E14 OFN 48

tel: 020 3716 0284 | fax: 020 3716 0272 | www.asaproject.org

email: referrals@asaproject.org.uk

Company registered in England and Wales number 04763838 | Registered charity number 1105625

For more information about how we use your data, please read our Privacy Notice: www.asaproject.org/privacy